

9 جولائی 2018

## 2018 برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامزدگیاں آخری تاریخ مورخہ 27 جولائی، بوقت دن 2 بجے

برامپٹن، آن - کیا آپ برامپٹن سٹی ہال، ریجن آف پیل یا کسی اسکول بورڈ کے منتخب شدہ نمائندہ کی حیثیت میں برامپٹن کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟

جو امیدوار برامپٹن کے 2018 کے میونسپل الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ہوں وہ اپنے کاغذات نامزدگی مورخہ 27 جولائی 2018 کو دن 2 بجے سے پہلے لازمی جمع کرا دیں۔

سٹی عوامی نمائندگی کے درج ذیل دفاتر کے لیے نامزدگیاں قبول کر رہا ہے:

- میئر
- ریجنل کونسلر
- سٹی کونسلر
- اسکول بورڈ ٹرسٹی برائے:
  - پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
  - ڈفرن-پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
  - Conseil scolaire de district catholique (سابقہ طور پر Conseil scolaire catholique MonAvenir (Centre-Sud)

نامزدگی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکج اب [آن لائن دستیاب](#) ہے اور برامپٹن سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک کے دفتر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فارم کو لازماً ذاتی طور پر دورانِ ہفتہ، صبح 8:30 تا شام 4:30 بجے تک اور مورخہ 27 جولائی 2018 کو صبح 9 سے دن 2 بجے تک بھرا جانا چاہیے۔ مورخہ 27 جولائی کو دن 2 بجے کے بعد موصول ہونے والی نامزدگیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔

ریجن آف پیل چیئر کے لیے نامزدگیاں، ریجن آف پیل معمول کے اوقات کار کے دوران مورخہ 27 جولائی 2018 کو دن 2 بجے تک قبول کرے گا، بمقام 10 پیل سنٹر ڈرائیو، برامپٹن۔ سکولینر ویامونڈے (scolaire Viamonde) کی کونسل کے لیے نامزدگیاں سٹی آف مسیساگا میں معمول کے اوقات کار کے دوران مورخہ 27 جولائی 2018 کو دن 2 بجے تک قبول کی جائیں گی، بمقام 300 سٹی سنٹر ڈرائیو، مسیساگا۔

فارم بھرتے وقت، فیس (میئر کے لیے \$200.00، دیگر تمام عہدوں کے لیے \$100.00) نقد رقم کی صورت میں، ڈیپٹ کارڈ، تصدیق شدہ چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندگان کو لازمی طور پر نام اور قابل قبول پتہ کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ صرف اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانک ورژنز کی اجازت نہیں ہے۔ تمام ممکنہ امیدواروں کو الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کے لیے چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنا نامینیشن پیپر اور انٹورسمنٹ آف نامینیشن فارم لازمی طور پر جمع کروانا ہو گا۔ اسکول بورڈ ٹرسٹی کے امیدواروں سے انٹورسمنٹ آف نامینیشن فارم جمع کروانے کا تقاضہ نہیں کیا جاتا۔

نامزد شدہ امیدواروں کی فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جاتی رہے گی اور یہ [www.brampton.ca/BramptonVotes](http://www.brampton.ca/BramptonVotes) پر دستیاب ہے۔

تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی رجسٹریشن 19 اکتوبر، 2018 تک جمع کرائی جا سکتی ہے۔

-30-